



سوال

(321) چند روایات کی تحقیق

جواب

السلام عليکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

درج ذیل احادیث کی تجزیخ درکار ہے۔

1- قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّمَا يَجْتَمِعُ الْمُلْكَةُ لِغَنْوَةٍ إِلَّا كَانَ حَتَّىٰ عَلَىَ اللَّهِ أَنْ لَا تُرْدَأَ يَمِّنْ "

(جب بھی تین آدمی کسی دعا کے ساتھ لکھے ہوں تو اللہ پر یہ حق ہے کہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائے۔) (یہقی - شعب الایمان - ابن اعده (2/820) ابو نعیم فی الحلیہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

2- "لَا يَجْتَمِعُ ملَأُ فِيدٍ عَوْ بِعَصْمٍ وَلَا مُنْ بِعَصْمٍ إِلَّا جَاءُهُمُ اللَّهُ-

(جب بھی کچھ لوگ لکھے و کر دعا کرتے ہیں اور کچھ آمیں کہتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔) (یہقی، طبرانی کبیر) 22/7 (حاکم (3/347) عن حییب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

3- "العلاء بن الحسن رضي الله عنه و نصب في الدعاء، ورفع يديه، و فعل الناس مثله حتى طلعت الشمس

البداية والنهاية خلافة أبي بكر ذكر رودة أهل البحرين ودعوه تم الى الاسلام"

(البداية والنهاية 328/6 وطبع بيروت جز 7 جلد 3 صفحہ 333، طبرانی صغیر: 392) اسی طرح کا مضموم طبقات ابن سعد (4/363) میں ہے۔

4- تفسیر روایت-

"إِذَا فَرَغْتَ مِنِ الصلَاةِ الْمُكْتَوِيَةِ فَنَصِبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فِي الدُّعَاءِ وَارْغِبْ إِلَيْهِ فِي السَّأَةِ يُعْطِكَ"

(معالم التنزيل مع الباب التاویل 220/7، دوسرا نسخہ 4/503)

5- اثر دعائے موسیٰ علیہ السلام وہرون علیہ السلام

"{فَأَبْيَجَبْتُ وَغَوْنِكْنَا} وَقَالَ ابْنَ تِيمِيَّةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكَانَ أَحَدَهَا يَدْعُو وَالآخَرُ لَوْمَهُمْ (فَتاوِيٌّ مُصْرِيٌّ)"

"کان موسیٰ علیہ السلام بن عمران : اذا دعا من عليه هارون علیہ السلام عن ابی هریرۃ رضی اللہ عنہ"



(موسیٰ علیہ السلام جب دعا کرتے تو ہارون علیہ السلام آمین کہتے)

6- فتویٰ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

"الاتصال علی القراءة والذکر والدعاء حسن"

(قراءت ذکر اور دعا پر اکٹھا ہونا پسحابے) (مسخر قتاویٰ مصریہ صفحہ 93) (محمد صدیق اپٹ آباد

الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، آما بعد!

امام ابو احمد بن عدی الجرجانی (متوفی 365ھ) نے کہا:

"عن زید بن اسلم عن انس رضی اللہ عنہ قال : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "نَاجَمَتْ خَلَقَتْ قَطْبَهُ غَوْفَةُ الْأَكَانِ حَتَّى عَلَى اللَّهِ أَن لَا تُرَدَّ أَيْمَنُهُ""

(الکامل فی ضعفاء الرجال ج 2 ص 820)

حافظ ابو نعیم الاصبهانی (متوفی 430ھ) نے کہا:

"حدیث زید بن اسلم عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "نَاجَمَتْ خَلَقَتْ قَطْبَهُ غَوْفَةُ الْأَكَانِ حَتَّى عَلَى اللَّهِ أَن لَا تُرَدَّ أَيْمَنُهُ" ، غَرِیبٌ مِنْ حَدیثِ زَیدٍ ، لَا عِلْمٌ رواه الاعیسیٰ عن بشاش عنہ" (حلیۃ الولیاء ج 3 ص 226)

موضوع متن:

تین آدمی بھی اکٹھے نہیں ہوتے، پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں مگر اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انھیں نہ لوٹائے۔ (یعنی تین آدمی جب بھی اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے روئیں کرتا)

بیہقی کی شعب الایمان اور کتاب الدعوات، دونوں میں مجھے یہ روایت تلاش بسیار کے باوجود نہیں ملی۔ (واعلم عند اللہ)

درج بالادو نوں سندوں کا دار و مدار جیب کا تب مالک پر ہے جس کے بارے میں امام ابن عدی نے فرمایا: "یضع الحدیث" وہ حدیث گھستا تھا۔ (ج 2 ص 818)

الموحتم الرازی نے کہا: "کیذاب" وہ جھوٹ یوتا تھا۔ (الجرح والتغسل ج 3 ص 100)

یعنی یہ روایت موضوع ہے۔



2- امام طبرانی نے کہا:

"آخر جه الطبرانی فی "المجم الکبیر" (3536/26/4) : حدثنا بشر بن موسی : ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ : ثنا ابن أبيه : حدثني ابن ميرية عن جعيب بن مسلم الفهرى - وكان مسجباً - : أنه أتى على جيش، فدرب الدروع، فلما لقى العدو، قال للناس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .. فذكره ثم انه حمد الله وأشنى عليه فقال : اللهم إحقن داعينا، واجعل أجورنا أجور الشهداء ". ففيها علی ذکر اذْتَرْ (النباط) أمير العدو، فدخل على جعيب سراقد و قال الطبرانی)النباط) بالرومیة: صاحب الجیش ". (المجم الکبیر ج 4 ص 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 180، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 200، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226، 227، 228، 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249، 250، 251، 252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 259، 260، 261، 262، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274، 275، 276، 277، 278، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289، 290، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 300، 301، 302، 303، 304، 305، 306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 314، 315، 316، 317، 318، 319، 320، 321، 322، 323، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333، 334، 335، 336، 337، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 355، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 364، 365، 366، 367، 368، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375، 376، 377، 378، 379، 380، 381، 382، 383، 384، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 393، 394، 395، 396، 397، 398، 399، 400، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 414، 415، 416، 417، 418، 419، 420، 421، 422، 423، 424، 425، 426، 427، 428، 429، 430، 431، 432، 433، 434، 435، 436، 437، 438، 439، 440، 441، 442، 443، 444، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453، 454، 455، 456، 457، 458، 459، 460، 461، 462، 463، 464، 465، 466، 467، 468، 469، 470، 471، 472، 473، 474، 475، 476، 477، 478، 479، 480، 481، 482، 483، 484، 485، 486، 487، 488، 489، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 496، 497، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 521، 522، 523، 524، 525، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 532، 533، 534، 535، 536، 537، 538، 539، 540، 541، 542، 543، 544، 545، 546، 547، 548، 549، 550، 551، 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 551، 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، 567، 568، 569، 570، 571، 572، 573، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584، 585، 586، 587، 588، 589، 581، 582، 583، 584، 585، 586، 587، 588، 589، 590، 591، 592، 593، 594، 595، 596، 597، 598، 599، 591، 592، 593، 594، 595، 596، 597، 598، 599، 600، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617، 618، 619، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617، 618، 619، 620، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 630، 631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 638، 639، 631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 638، 639، 640، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 649، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 654، 655، 656، 657، 658، 659، 651، 652، 653، 654، 655، 656، 657، 658، 659، 660، 661، 662، 663، 664، 665، 666، 667، 668، 669، 661، 662، 663، 664، 665، 666، 667، 668، 669، 670، 671، 672، 673، 674، 675، 676، 677، 678، 679، 671، 672، 673، 674، 675، 676، 677، 678، 679، 680، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691، 692، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699، 691، 692، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699، 700، 701، 702، 703، 704، 705، 706، 707، 708، 709، 701، 702، 703، 704، 705، 706، 707، 708، 709، 710، 711، 712، 713، 714، 715، 716، 717، 718، 719، 711، 712، 713، 714، 715، 716، 717، 718، 719، 720، 721، 722، 723، 724، 725، 726، 727، 728، 729، 721، 722، 723، 724، 725، 726، 727، 728، 729، 730، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 740، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749، 750، 751، 752، 753، 754، 755، 756، 757، 758، 759، 751، 752، 753، 754، 755، 756، 757، 758، 759، 760، 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769، 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769، 770، 771، 772، 773، 774، 775، 776، 777، 778، 779، 771، 772، 773، 774، 775، 776، 777، 778، 779، 780، 781، 782، 783، 784، 785، 786، 787، 788، 789، 781، 782، 783، 784، 785، 786، 787، 788، 789، 790، 791، 792، 793، 794، 795، 796، 797، 798، 799، 791، 792، 793، 794، 795، 796، 797، 798، 799، 800، 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 808، 809، 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 808، 809، 810، 811، 812، 813، 814، 815، 816، 817، 818، 819، 811، 812، 813، 814، 815، 816، 817، 818، 819، 820، 821، 822، 823، 824، 825، 826، 827، 828، 829، 821، 822، 823، 824، 825، 826، 827، 828، 829، 830، 831، 832، 833، 834، 835، 836، 837، 838، 839، 831، 832، 833، 834، 835، 836، 837، 838، 839، 840، 841، 842، 843، 844، 845، 846، 847، 848، 849، 841، 842، 843، 844، 845، 846، 847، 848، 849، 850، 851، 852، 853، 854، 855، 856، 857، 858، 859، 851، 852، 853، 854، 855، 856، 857، 858، 859، 860، 861، 862، 863، 864، 865، 866، 867، 868، 869، 861، 862، 863، 864، 865، 866، 867، 868، 869، 870، 871، 872، 873، 874، 875، 876، 877، 878، 879، 871، 872، 873، 874، 875، 876، 877، 878، 879، 880، 881، 882، 883، 884، 885، 886، 887، 888، 889، 881، 882، 883، 884، 885، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892، 893، 894، 895، 896، 897، 898، 899، 891، 892، 893، 894، 895، 896، 897، 898، 899، 900، 901، 902، 903، 904، 905، 906، 907، 908، 909، 901، 902، 903، 904، 905، 906، 907، 908، 909، 910، 911، 912، 913، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 911، 912، 913، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 920، 921، 922، 923، 924، 925، 926، 927، 928، 929، 921، 922، 923، 924، 925، 926، 927، 928، 929، 930، 931، 932، 933، 934، 935، 936، 937، 938، 939، 931، 932، 933، 934، 935، 936، 937، 938، 939، 940، 941، 942، 943، 944، 945، 946، 947، 948، 949، 941، 942، 943، 944، 945، 946، 947، 948، 949، 950، 951، 952، 953، 954، 955، 956، 957، 958، 959، 951، 952، 953، 954، 955، 956، 957، 958، 959، 960، 961، 962، 963، 964، 965، 966، 967، 968، 969، 961، 962، 963، 964، 965، 966، 967، 968، 969، 970، 971، 972، 973، 974، 975، 976، 977، 978، 979، 971، 972، 973، 974، 975، 976، 977، 978، 979، 980، 981، 982، 983، 984، 985، 986، 987، 988، 989، 981، 982، 983، 984، 985، 986، 987، 988، 989، 990، 991، 992، 993، 994، 995، 996، 997، 998، 999، 991، 992، 993، 994، 995، 996، 997، 998، 999، 1000، 1001، 1002، 1003، 1004، 1005، 1006، 1007، 1008، 1009، 1001، 1002، 1003، 1004، 1005، 1006، 1007، 1008، 1009، 1010، 1011، 1012، 1013، 1014، 1015، 1016، 1017، 1018، 1019، 1011، 1012، 1013، 1014، 1015، 1016، 1017، 1018، 1019، 1020، 1021، 1022، 1023، 1024، 1025، 1026، 1027، 1028، 1029، 1021، 1022، 1023، 1024، 1025، 1026، 1027، 1028، 1029، 1030، 1031، 1032، 1033، 1034، 1035، 1036، 1037، 1038، 1039، 1031، 1032، 1033، 1034، 1035، 1036، 1037، 1038، 1039، 1040، 1041، 1042، 1043، 1044، 1045، 1046، 1047، 1048، 1049، 1041، 1042، 1043، 1044، 1045، 1046، 1047، 1048، 1049، 1050، 1051، 1052، 1053، 1054، 1055، 1056، 1057، 1058، 1059، 1051، 1052، 1053، 1054، 1055، 1056، 1057، 1058، 1059، 1060، 1061، 1062، 1063، 1064، 1065، 1066، 1067، 1068، 1069، 1061، 1062، 1063، 1064، 1065، 1066، 1067، 1068، 1069، 1070، 1071، 1072، 1073، 1074، 1075، 1076، 1077، 1078، 1079، 1071، 1072، 1073، 1074، 1075، 1076، 1077، 1078، 1079، 1080، 1081، 1082، 1083، 1084، 1085، 1086، 1087، 1088، 1089، 1081، 1082، 1083، 1084، 1085، 1086، 1087، 1088، 1089، 1090، 1091، 1092، 1093، 1094، 1095، 1096، 1097، 1098، 1099، 1091، 1092، 1093، 1094، 1095، 1096، 1097، 1098، 1099، 1100، 1101، 1102، 1103، 1104، 1105، 1106، 1107، 1108، 1109، 1101، 1102، 1103، 1104، 1105، 1106، 1107، 1108، 1109، 1110، 1111، 1112، 1113، 1114، 1115، 1116، 1117، 1118، 1119، 1111، 1112، 1113، 1114، 1115، 1116، 1117، 1118، 1119، 1120، 1121، 1122، 1123، 1124، 1125، 1126، 1127، 1128، 1129، 1121، 1122، 1123، 1124، 1125، 1126، 1127، 1128، 1129، 1130، 1131، 1132، 1133، 1134، 1135، 1136، 1137، 1138، 1139، 1131، 1132، 1133، 1134، 1135، 1136، 1137، 1138، 1139، 1140، 1141، 1142، 1143، 1144، 1145، 1146، 1147، 1148، 1149، 1141، 1142، 1143، 1144، 1145، 1146، 1147، 1148، 1149، 1150، 1151، 1152، 1153، 1154، 1155، 1156، 1157، 1158، 1159، 1151، 1152، 1153، 1154، 1155، 1156، 1157، 1158، 1159، 1160، 1161، 1162، 1163، 1164، 1165، 1166، 1167، 1168، 1169، 1161، 1162، 1163، 1164، 1165، 1166، 1167، 1168، 1169، 1170، 1171، 1172، 1173، 1174، 1175، 1176، 1177، 1178، 1179، 1171، 1172، 1173، 1174، 1175، 1176، 1177، 1178، 1179، 1180، 1181، 1182، 1183، 1184، 1185، 1186، 1187، 1188، 1189، 1181، 1182، 1183، 1184، 1185، 1186، 1187، 1188، 1189، 1190، 1191، 1192، 1193، 1194، 1195، 1196، 1197، 1198، 1199، 1191، 1192، 1193، 1194، 1195، 1196، 1197، 1198، 1199، 1200، 1201، 1202، 1203، 1204، 1205، 1206، 1207، 1208، 1209، 1201، 1202، 1203، 1204، 1205، 1206، 1207، 1208، 1209، 1210، 1211، 1212، 1213، 1214، 1215، 1216، 1217، 1218، 1219، 1211، 1212، 1213، 1214، 1215، 1216، 1217، 1218، 1219، 1220، 1221، 1222، 1223، 1224، 1225، 1226، 1227، 1228، 1229، 1221، 1222، 1223، 1224، 1225، 1226، 1227، 1228، 1229، 1230، 1231، 1232، 1233، 1234، 1235، 1236، 1237، 1238، 1239، 1231، 1232، 1233، 1234، 1235، 1236، 1237، 1238، 1239، 1240، 1241، 1242، 1243، 1244، 1245، 1246، 1247، 1248، 1249، 1241، 1242، 1243، 1244، 1245، 1246، 1247، 1248، 1249، 1250، 1251، 1252، 1253، 1254، 1255، 1256، 1257، 1258، 1259، 1251، 1252، 1253، 1254، 1255، 1256، 1257، 1258، 1259، 1260، 1261، 1262، 1263، 1264، 1265، 1266، 1267، 1268، 1269، 1261، 1262، 1263، 1264، 1265، 1266، 1267، 1268، 1269، 1270، 1271، 1272، 1273، 1274، 1275، 1276، 1277، 1278، 1279، 1271، 1272، 1273، 1274، 1275، 1276، 1277، 1278، 1279، 1280، 1281، 1282، 1283، 1284، 1285، 1286، 1287، 1288، 1289، 1281، 1282، 1283، 1284، 1285، 1286، 1287، 1288، 1289، 1290، 1291، 1292، 1293، 1294، 1295، 1296، 1297، 1298، 1299، 1291، 1292، 1293، 1294، 1295، 1296، 1297، 1298، 1299، 1300، 1301، 1302، 1303، 1304، 1305، 1306، 1307، 1308، 1309، 1301، 1302، 1303، 1304، 1305، 1306، 1307، 1308، 1309، 1310، 1311، 1312، 1313، 1314، 1315، 1316، 1317، 1318، 1319، 1311، 1312، 1313، 1314، 1315، 1316، 1317، 1318، 1319، 1320، 1321، 1322، 1323، 1324، 1325، 1326، 1327، 1328، 1329، 1321، 1322، 1323، 1324، 1325، 1326، 1327، 1328، 1329، 1330، 1331، 1332، 1333، 1334، 1335، 1336، 1337، 1338، 1339، 1331، 1332، 1333، 1334، 1335، 1336، 1337، 1338، 1339، 1340، 1341، 1342، 1343، 1344، 1345، 1346، 1347، 1348، 1349، 1341، 1342، 1343، 1344،



یہ روایت بلا سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

4- تفسیر معاجم التنزیل للبغوی (ج 4 ص 503 سورۃ الانشراح) میں لکھا ہوا ہے کہ :

"قال ابن عباس، وقادة، والضحاک، ومقاتل، والکبی : فَإِذَا فُرِغَتْ مِنَ الصَّلَاةِ الْمُكْتَوِبَةِ فَانْصَبْ إِلَى رَبِّكَ فِي الدُّعَاءِ وَارْغِبْ إِلَيْهِ فِي الْمَسَأَةِ يُعْطَكْ "

یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قادة، ضحاک، مقاتل اور کبی کہتے ہیں کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد پہنچ رب سے دعا کرو۔ وہ تیرا سوال (پورا کر کے) تجھے عطا کرے گا۔

یہ بلا سند اقوال، تفسیر طبری (ج 30 ص 151، 152) میں ضعیف سندوں سے مذکور ہیں تفسیر طبری صفحہ 152 پر ضعیف سند سے لکھا ہوا ہے کہ :

"الضحاک { فَإِذَا فُرِغَتْ فَانْصَبْ } يَقُولُ : مِنَ الصَّلَاةِ الْمُكْتَوِبَةِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ، فَانْصَبْ "

یعنی "فَانْصَبْ" کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز سے فارغ ہوتے وقت سلام سے پہلے دعا کرو۔ المذاان اقوال غیر ثابتہ سے اجتماعی دعا کے قائلین کا مدعای پورا نہیں ہوتا۔

5- "قد أجيئت ذخنيجا" کے سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول (منحصر الفتاوی المصریہ ص 93) محتاج دلیل ہے۔

عین ممکن ہے کہ ان کی دلیل تفسیر ابن کثیر (ج 2 ص 445) وغیرہ کے آثار واقوال ہوں جو تفسیر طبری (ج 11 ص 110، 111) تفسیر ابن ابی حاتم (ج 6 ص 1980) اور تفسیر عبد الرزاق (ج 1 ص 261 حدیث 1171) میں ضعیف و غیر ثابت سندوں سے مذکور ہیں والله اعلم۔

حدیث۔

"کان موسی بن عمران اذا دعا امن عليه هارون"

تفسیر درمثور (ج 3 ص 315) میں بغیر سند کے ابو الحسن (الاصبهانی) سے اور کنز العمال (ج 2 ص 622 حدیث 4914) میں بحوالہ عبد الرزاق منقول ہے۔ مصنف عبد الرزاق (ج 2 ص 99 ح 2651) میں یہی روایت :

"بُشَرٌ بْنُ رَافِعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هَرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَبِّنَعْ "

کی سند سے مذکور ہے۔ بُشَرٌ بْنُ رَافِعٍ ضعیف الحدیث تھا۔

ویکھئے تقریب التہذیب (685) اور ابو عبد اللہ کی توثیق بھی ثابت نہیں ہے۔

المذاہیہ سندووجہ سے ضعیف ہے۔



محدث فلوبی

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول :

"الاجماع على القراءة والذكر والدعاء حسن إذا لم يحذفه راتبها ولا تقرن به منكر من بدعة"

قراءت ذکر اور دعاء پر اکٹھا ہونا بحاجا ہے بشرطیکہ اسے سنت راتبہ نہ سمجھا جائے اور نہ اس کے ساتھ کسی بری بدعت کا اضافہ کر دیا جائے۔ (منحصر الفتاوی المصریہ ص 92) کا تعلق بعض اوقات دعا سے ہے نہ کہ فرض نماز کے بعد کیونکہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں۔

"اما دعاء الإمام والمأمورين جميعاً عقيب الصلوة فهو بدعة، لم يكن على عبد النبي صلى الله عليه وسلم"

یعنی امام اور مفتولوں کا نماز کے بعد لکھتے ہو کر دعا کرنا بدعت ہے کیونکہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ (الفتاوی الحبری ج 1 ص 219 طبع دار المعرفة بیروت، لبنان)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص بغیر کسی التزام یا لزوم کے کبھی بمحاریہ دعا کر لیتا ہے تو عمومی کی رو سے جائز ہے تاہم افضل یہی ہے کہ مسنون اذکار و تسبیحات پر امتحان کر کے اس "اجتماعی دعا" سے پچا جائے۔ واللہ اعلم (شهادت، مئی 2001ء)

هذا عندی والله أعلم بالصواب

فتاوی علمیہ

جلد 1 - اصول، تحریج اور تحقیق روایات - صفحہ 600

محمد شفیق